



## سید امتیاز علی تاج

(1900 — 1970)

نام سید امتیاز علی اور تاج تخلص تھا۔ بچپن سے ہی ذہین تھے۔ ابتدائی تعلیم پہلے گھر پر پھر اسکول میں ہوئی۔ انھیں کم عمری سے ہی تھیٹر اور ڈراموں کا شوق تھا۔ 1922ء میں انھوں نے اپنا شاہ کار ڈراما 'انارکی' لکھا جو دس برس بعد 1932ء میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ اس ڈرامے میں ان کی بہترین تخلیقی صلاحیتیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ انارکی کے بعد انھوں نے کوئی مکمل استیج ڈراما نہیں لکھا۔ البته یک بابی ڈرامے، ریڈیوی ڈرامے، فلمی کہانیاں اور مکالے لکھتے رہے۔ انھوں نے فلم سازی بھی کی اور فلمی ہدایت کار کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔

سید امتیاز علی تاج کی مزاحیہ کتاب "چچا چھکن کے کارنائے" کو اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ چچا چھکن اردو ادب کا ایک بے مثال مزاحیہ کردار ہے۔ اپنی دل چسپ گفتگو اور مضامکہ خیز حرکات کی وجہ سے چچا چھکن کا شمار زندہ کرداروں میں ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ اس سبق میں سائبھ ستر سال پرانی تہذیب اور رہن سہن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ لکھنے پڑھنے کا سامان بھی پرانے ڈھنگ کا ہے۔ یہاں فاؤنڈیشن پین اور بال پوائنٹ پین کی جگہ نب اور ہولڈر کا قلم نظر آتا ہے جس کے لیے دوات اور جاذب کی ضرورت پڑتی ہے۔ امتیاز علی تاج کی تحریر سے لطف انداز ہونے کے لیے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔



5286CH06

## پچا چھکن نے خط لکھا

صحح کے وقت چھی دالان میں چار پائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلارہی تھیں۔ چچا چائے سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے۔ اتنے میں بندو بھاگتا ہوا گیا اور ایک خط لا کر چھی کے قریب رکھ دیا۔ چچا نے دس مرتبہ پوچھ ڈالا ”کس کا خط ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیا بات ہے؟“

چھی بگڑ گئیں ”توبہ ہے، خط آیا نہیں اور سوالات کا تانتا باندھ دیا۔ مجھے غیب کا علم تو آتا نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کس کا خط ہے۔“



چچا کچھ خفیف سے ہو گئے۔ ”بھلا خط ہوئی کہ پوچھا۔  
ہماری بلا سے کسی کا ہو،“  
بندو نے کہا ”بیگم صاحب، منصرم صاحب کی بیگم کا آدمی  
جواب کے انتظار میں کھڑا ہے،“  
یہ سن کر چچا سے نہ بیٹھا گیا۔ پوچھا ”کیا لکھا منصرم  
صاحب کی بیوی نے؟“  
چھی نے چائے کی پرچ چھکن کے منہ سے لگاتے ہوئے  
بے پرواں سے کہا ”رات کے کھانے پر بلا یا ہے،“  
”کیا بات ہے؟ کوئی تقریب؟“

چھی نے کسی تدرسرسی انداز میں کہا ”بات کیا ہوتی؟ منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھیں، انھیں اور مجھے دونوں  
کو کھانے پر بلا لیا ہے۔“

شاید مزید اطمینان حاصل کرنے کو چچا بولے ”تو گویا زنانہ ضیافت ہے۔ بہت معقول بیوی ہیں۔ ایسی ملنسار بیویاں کہاں

نظر آتی ہیں۔ ضرور جاؤ ضیافت میں۔ بلکہ کوئی موقع ہو تو انھیں بھی اپنے ہاں مدعو کرو۔“ ساتھ ہی ایک مشورہ بھی فیصلے کی صورت میں پیش کیا ”بچے تو جائیں گے ہی ساتھ۔“ چھی نے کچھ بگڑ کر آہستہ سے کہا ”ہمسایوں کو بھی نہ لیتی جاؤ۔“ باہر ملازم جواب کا تقاضا کر رہا تھا۔ ایسا موقع اور چیز اپنی خدمات پیش کرنے سے روک جائیں؟ بولے ”ہم لکھ دیں جواب؟“ چھی بولیں ”نہ بس آپ معاف رکھیے۔ فارغ ہو کر میں آپ ہی لکھ لوں گی۔“

روکے جانے کا باعث بچا کیوں نہ پوچھیں۔ بولے ”کیا معنی؟ ہم خط لکھنا نہیں جانتے؟ دعوت منظور کرنے ہی کا خط لکھنا ہے نا! تو اس کا لکھنا ایسی کون سی جوئے شپر لانا ہے۔“

اتنے میں چھٹن نے جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا تو اسے اچھال آگیا۔ ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی۔ چھی ”ہائے نامراد،“ کہتی ہوئی تو یہ سے کپڑے پوچھنے لگیں۔ ادھر باہر سے آواز آئی۔

”کیوں صاحب ملے گا جواب؟“ چھی نے گھبرا کر بچا سے کہہ دیا ”اچھا پھر اب تم ہی یہ لکھ دو کہ آ جاؤں گی۔“

اب کیا تھا، بچا کو منہ مالگی مراد ملی۔ خط و تباہت کے متعلق ضروری سامان فراہم کیے جانے کے احکام صادر ہونے لگے۔

”بندو، میرے بھائی، ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامان جھپاک سے۔ کیا کیلاۓ گا بھلا؟ قلم دوات اور کاغذ۔ شاباش! مگر

کون سے کاغذ؟ آسمانی رنگ کے بڑھیا، رولدار ہاں وکھانا تو ذرا اپنی چال اور سنیو..... چلا گیا؟ لفافہ بھی چاہیے ہوگا۔ ارے بھتی کوئی لفافہ بھی لاو۔ پر نیلے ہی رنگ کا ہولگاف۔ صندوقچے میں رکھے ہیں۔ لکڑی کے صندوقچے میں۔ الماری میں ہوگا صندوقچے۔ بڑی الماری میں۔ سن لیانا؟ ذرا پھر تی سے۔“

”ارے ہاں اور جاذب بھی تو لانا ہے بھتی۔ جاذب! جاذب! کوئی نہیں سنتا۔ یہ امامی کہاں گیا؟ او امامی! دیکھیں اس بدمعاش کی حرکتیں۔ بس کام نکلنے کی دیر ہے اور یہ غائب۔ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا۔ ذرا تم چلے جاتے میاں للو! وہ جو ہری کاپی ہے سخنوں کی، وہ ہمارے تیکے کے نیچے رکھی ہے۔ اس میں جاذب ہے وہ نکال لاو اور دیکھنا۔ اماں سنتو بھتی للو! ارے میاں للو! اوللو کے بچے! عجب حالت ہے ان لوگوں کی۔ بس ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ریل ہی تو پکڑنی ہے۔ وڈو! تم جا کر کہو جاذب نہ لائیں کاپی ہی لے آئیں۔ آخر خط بھی تو کسی چیز پر رکھ کر لکھا جائے گا۔ ہاتھ پر رکھ کر تو میں لکھنے سے رہا۔ اور سننا میری بات۔ وہ کہیں ہمارا چشمہ بھی رکھا ہوگا وہ ڈھونڈتے لانا۔“

لبھیے صاحب ایک دو منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہو گیا۔ ایک کوئی چیز مل گئی، دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے کہ فلاں چیز

نہیں ملتی۔ کوئی کہتا ہے ” فلاں چیز مقلل ہے“، سنجھیوں کا گچھا ڈھونڈا جا رہا ہے۔ چچا بگڑ رہے ہیں۔ موچھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔

خدا خدا کر کے تمام چیزیں جمع ہوئیں۔ چچا نے چشمہ لگایا۔ کرسی پر براہماں ہوئے۔ لڑکے چیزیں لیے اور دگر دکھڑے ہو گئے۔ کاغذ سنبھالا، کاپی اس کے نیچے رکھی۔ قلم ہاتھ میں لیا۔ اب دیکھتے ہیں تو اس کا نب ندارد! ”ہیں! نب کہاں ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ! ابے اندر ہے اس سے لکھوں گا خط؟ اس سے لکھنا ہوتا تو میں اپنی انگلی سے نہ لکھ لیتا؟ تجھے قلم لانے کو کیوں کہتا؟ میں آج معلوم کر کے رہوں گا یہ حرکت کس نامعقول کی ہے؟“ باہر سے آواز آئی ”ابی صاحب جواب کے لیے کھڑے ہیں۔“

چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھیں اور دل ہی دل میں یقین و تاب کھا رہی تھیں۔ آوازن کرنے رہا گیا۔ بولیں ”خدا کے لیے لکھنا ہے تو لکھ دو۔ وہ غریب باہر کھڑا سوکھ رہا ہے۔ یہ قلم نہیں تو میرا قلم موجود ہے۔ جا بتو میرا قلم لادے۔“ چچا اس وقت جوش میں تھے۔ چچی پر بھی برس پڑے۔ ”تمہاری ہی شہمہ پا کرتو تو نوکروں اور بچوں کی عادتیں بگڑ رہی ہیں۔ یہ ضرور ان میں سے کسی کی حرکت ہے۔ کوئی بچہ یا ملازم ہمارے اس قلم سے تفریح کرتا رہا اور اسی نے اس کا نب ضائع کیا ہے۔ تجھ بتاؤ کہ یہ حرکت کس کی ہے؟“

اتنے میں بتو چچی کا قلم لے آئی۔ چچا کا آخری فقرہ سن کر اس نے اُن کے قلم پر نگاہ ڈالی تو بولی ”لال قلم! ابا میاں کل آپ ہی نے تو ازار بن ڈالنے کو اس کا نب اُتارا تھا۔“

چچا نے گھور کر بتو کو دیکھا۔ قلم کو دیکھا۔ کچھ سوچا۔ کھکا کر گلا صاف کیا۔ کرسی پر پیٹر ابدلا۔ سنجھیوں سے چچی اماں پر نظر ڈالی اور قلم بتو کے ہاتھ سے لے لیا۔ سر جھکا کر انگوٹھے کے ناخن پر اس کا نب پر کھنے لگے۔ بولے ”چلواب اسی سے کام چل جائے گا۔“ آواز کا سر بہت مدھم تھا۔

خط لکھنا شروع کیا۔ القاب ہی لکھا ہو گا کہ خط کا کاغذ پھاڑ ڈالا۔ دوسرا منگوایا۔ ڈالیا لیکن لکھتے لکھتے رُک گئے۔ بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے۔ آخر پھر لکھنا شروع کیا۔ نب اتنی دیر میں شنک ہو چکا تھا۔ آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہے۔ قلم بے تکلف دوات میں ڈال دیا۔ تحریر شروع کرنے کی دیر تھی کہ سیاہی کا یہ بڑا حصہ کاغذ پر! لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر اس کا غذ کو بھی پھاڑ ڈالا۔ تیسرا کاغذ منگوایا۔ اس پر دو تین سطریں لکھ گئے۔ اس کے بعد قلم روک کر جو کچھ لکھا تھا، پڑھا۔ چچی کی طرف دیکھا، خط کو دیکھا اور چپکے سے پھاڑ ڈالا۔ ہلکے سے کہا ”خط کے کاغزوں کی کاپی ہی لے آ۔“

کاغذوں کی کاپی کی کاپی آگئی اور رفتے کا جواب بے فکری سے لکھا جانا شروع ہو گیا۔ کبھی قلم کا شکوہ کہ نب درست نہیں، نیاب ہے۔ کبھی دوات کی شکایت کہ سیاہی ٹھیک نہیں، پچکی ہے۔ کبھی جاذب برآ کہ یہ جاذب ہے یا پتگ بنانے کا کاغذ۔ ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمهید۔ اسی میں پون گھنٹہ ہونے آگیا۔ باہر ملازم آوازوں پر آوازیں دے رہا ہے۔ ادھر چھپی یہ قصہ ختم کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں۔ بار بار کہہ رہی ہیں ”خدا کے لیے تم مجھے قلم دوات دو میں ابھی دو منٹ میں لکھے دیتی ہوں خط۔“ مگر پچھا اپنی قابلیت کی یہ توہین کیوں کر برداشت کر لیں۔ سٹ پٹا گئے ہیں مگر خط لکھنے سے باز نہیں آتے۔ پیترے پر پیتراء بدل رہے ہیں اور کاغذ پر کاغذردی کیے چلے جا رہے ہیں۔

غرض پورے ڈیڑھ گھنٹے میں خط ختم ہوا اور اسے جلدی بند کر کے چھانے باہر ملازم کے حوالے کیا۔

لیکن لطف اس وقت آیا جب دو پھر کو منصرم صاحب کی بیوی کے ہاں سے پھر ایک لفافہ آیا جس میں پچا چکن کا لکھا ہوا خط رکھا تھا اور ساتھ ہی اس مضمون کا ایک رقعہ۔ ”پیاری بہن، شاید غلطی سے کسی اور کے نام کا خط میرے نام کے لفافے میں رکھ دیا گیا۔ واپس بھیجنی ہوں۔ براہ مہربانی ملازم کے ذریعے زبانی اطلاع دیجیے کہ آپ رات کو تشریف لا سکیں گی یا نہیں؟“

چھپی نے پچا کا لکھا ہوا خط پڑھا تو اس کی عبارت یہ تھی:

”جبیل المناقب، عیم الاحسان، زاد عنایتکم۔ بیہاں بفضل ایزد خیریت ہے اور صحت و تدرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعویات خمس الاوقات نیک چاہتے ہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں وارد ہوا۔ طمائیت گھنی ہو کہ وقتِ معین پر حاضری کے شرف و فخار کا حصول مائیہ ناز متصور ہو گا۔“

(سید امیار علی تاج)

## مشق

### لفظ و معنی

شہزاد	:	بہترین کام
منصرم	:	منظوم، انتظام کرنے والا

مصحفیہ خیز	:	جن پر فسی آئے، بے دوفنی کا کام
غیب	:	پوشیدہ، او جھل
خفیف	:	شرمندہ، ہلکا
تیج و تاب کھانا	:	تلملانا
ضیافت	:	دعوت، خاطرداری
مقفل	:	جہاں تالا لگا ہو
جوئے شیر لانا	:	بہت مشکل کام انجام دینا
شہہ پانا	:	اسسانا، بہکانا
ضائع	:	برباد کرنا، ختم کرنا
پینتر ابد لانا	:	انداز بدلنا
تو ہین	:	بے حرمتی، بے عرّتی
ساعتِ مسعود	:	خوشی کی گھٹری، خوشی کا لمحہ
جمیل المناقب	:	اچھی صفات رکھنے والا
عمیم الاحسان	:	عام طور پر احسان کرنے والا
زاد عنایت کم	:	آپ کی عنایت میں اضافہ ہو
بفضلِ ایزد	:	خدا کے فضل و کرم سے
مجیب الدعوات	:	مراد اللہ تعالیٰ، دعا قبول کرنے والا
خمس الاوقات	:	پانچوں وقت، تیج وقت
تلتطف نامہ	:	کرم نامہ
وارد ہوا	:	پہنچا
طمانتیت کھنی	:	کامل طمینان

شرف افتخار	:	عزت و عنایت کا شرف
مایہ ناز	:	موجب فخر
منصور	:	تصور کیا گیا، جسے سوچا گیا

## سوالات

- 1- چی کو دعوت پر کس نے مدعو کیا تھا؟
- 2- خط کس کا تھا اور اس میں کیا لکھا تھا؟
- 3- چی، چچا چکن پر کیوں ناراض ہو گئیں؟
- 4- قلم دیکھ کر چچا چکن کیوں خفا ہو گئے؟
- 5- خط کا جواب لکھنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟
- 6- چچا چکن نے خط کا جواب لکھنے میں کیا کیا ضروری سامان فراہم کیے جانے کا حکم صادر کیا؟
- 7- چچا چکن کے خط کو منصرم صاحب کی بیوی نے کیوں واپس کر دیا؟

## زبان و قواعد

☆ یونچ لکھتے ہوئے معاوروں اور کہاوت کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے:

تانتا بندھنا جوئے شیر لانا پیچ و تاب کھانا پینٹر ابدلنا برس پڑنا

کام کانہ کا ج کا دشمن اناج کا

## غور کرنے کی بات

- چچا چھکن کے کردار پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بظاہر یہ ایک معمولی کردار ہے لیکن امتیاز علی تاج نے مصلحہ خیز حرکات اور دل چسپ گفتگو سے اس کردار کو دل چسپ بنادیا ہے۔
- تاج نے چچا چھکن کے خط لکھنے کے انداز میں بھی ایک ایسا پہلو پیش کیا ہے کہ خط کی سنجیدہ عبارت پڑھتے ہوئے قاری مسکراۓ بغیر نہیں رہ سکتا۔
- چچا اور چچی کے ماہین دل چسپ مکالموں کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

عملی کام

